



## تم میں سے جو شخص جہاد پر جانے والا کہ اہل خانہ اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ اس کی جانشینی کرے گا اس کو جہاد میں جانے والا کا نصف اجر ملے گا

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنی لحيان کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: ”ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لئے نکلے اور اجر ان دونوں کے مابین مشترک ہو گا“ ایک اور روایت میں ہے: ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی (جہاد کے لئے) نکلے، پھر آپ ﷺ بیٹھنے والے کے لیے فرمایا: تم میں سے جو شخص جہاد پر جانے والا کہ اہل خانہ اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ اس کی جانشینی کرے گا اس کو جہاد میں جانے والا کا نصف اجر ملے گا

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنی لحيان کی طرف لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا جو کہ قبیلہ ذیل کی مشہور شاخوں میں سے ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بنی لحيان اس وقت کافر تھے، آپ ﷺ ان سے جہاد کرنے کے لئے ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر والوں سے فرمایا: ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد پر جانے کے لئے اٹھے آپ ﷺ کی مراد ہر قبیلہ سے اس کی نصف تعداد تھی، (والأجر) یعنی مجموعی اجر مجاہد اور بھلائی کے ساتھ اس کی جانشینی کرنے والا کہ مابین مشترک ہو گا اس کا مفہوم وہی ہے جو پچھلی حدیث کا ہے جس نے کسی مجاہد کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشین بنا یقیناً اس نے (بھی) جہاد کیا اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے: تم میں سے جو شخص جہاد پر جانے والا کہ اہل خانہ اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ اس کی جانشینی کرے گا اس کو جہاد میں جانے والا کا نصف اجر ملے گا مطلب یہ کہ نبی ﷺ انہیں حکم دیا کہ ان میں سے ایک آدمی جہاد کے لئے نکلے اور ایک جہاد پر جانے والا کہ اہل و عیال کی نگہبانی اور دیکھ بھال کرے اور اس کے لئے اس کا آدھا اجر ہو گا کیونکہ بقیہ آدھا جہاد پر جانے والا کو ملے گا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6366>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

